


فرائض، واجبات و مفسدات نماز


نماز کا عملی طریقہ




تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ





قیام میں پاؤں رکھنے کا طریقہ





قیام میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ





رکوع کا طریقہ





تومہ (رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا طریقہ)




سجدے میں ہاتھ پاؤں رکھنے کا طریقہ



جلسہ (دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ)



قعدہ میں پاؤں بچھانے اور اشارے کا طریقہ



فرائض نماز: اگر ان میں سے کوئی چیز بھی جان کر یا بھول کر رہ جائے تو نماز نہ ہوگی دوبارہ پڑھنا فرض ہوگا۔

نماز کے تیرہ فرض ہیں جن میں سے چند ایسے ہیں کہ جن کا نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے اور ان کو شرائط نماز اور چند فرائض ایسے ہیں جو داخل نماز ہیں ان کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ سب کی فہرست یہ ہے۔

(۱) بدن کا پاک ہونا۔ (۲) کپڑوں کا پاک ہونا۔ (۳) ستر یعنی مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کو چہرے اور تھیلیوں اور قدموں کے علاوہ تمام بدن کا ڈھانکنا فرض ہے۔ (۴) نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ (۵) نماز کا وقت ہونا۔ (۶) قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ (۷) نماز کی نیت کرنا۔ یہ سب شرائط نماز ہیں۔ (۸) تکبیر تحریمہ۔ (۹) قیام یعنی کھڑا ہونا۔ (۱۰) قرأت یعنی ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں یا ایک چھوٹی سورۃ پڑھنا۔ (۱۱) رکوع کرنا۔ (۱۲) سجدہ کرنا۔ (۱۳) قعدہ اخیرہ۔ یہ ارکان نماز ہیں۔

واجبات نماز: اگر ان میں سے کوئی چیز بھی جان کر چھوڑ دے تو نماز نہ ہوگی اور اگر بھول جائے تو سجدہ سہو سے نماز ٹھیک ہو جائیگی۔

(۱) سورہ فاتحہ پڑھنا اور (۲) اسکے ساتھ کوئی سورۃ ملانا۔ (۳) فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں قرأت کرنا۔ (۴) سورہ فاتحہ کو سورۃ سے پہلے پڑھنا۔ (۵) تومہ یعنی رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا۔ (۶) جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ (۷) پہلا قعدہ کرنا۔ (۸) التحیات پڑھنا۔ (۹) لفظ سلام سے نماز ختم کرنا۔ (۱۰) تمام ارکان کو ترتیب اور اطمینان سے ادا کرنا (۱۱) امام کیلئے ظہر و عصر میں آہستہ، مغرب و عشاء کی پہلی دونوں رکعتوں اور فجر و جمعہ و عیدین اور تراویح کی سب رکعتوں میں بلند آواز سے قرأت پڑھنا۔ (۱۲) وتر میں دعائے قنوت پڑھنا (۱۳) عیدین میں چھ زائد تکبیریں کہنا۔

مفسدات نماز: اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پایا جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔

(۱) بات کرنا خواہ تھوڑی ہو خواہ بہت قصداً ہو یا بھول کر۔ (۲) سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا۔ (۳) چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ (۴) رخ کی خبر سن کر انسا للہ و انا الیہ راجعون پورا یا تھوڑا سا پڑھنا یا اچھی خبر سن کر الحمد للہ کہنا یا عجیب خبر سن کر سبحان اللہ کہنا۔ (۵) درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح آواز نکالنا کہ حروف پیدا جائیں جیسے آہ، اوہ یا آف۔ (۶) اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا۔ (۷) قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ (۸) قرأت کے دوران ایسی غلطی کرنا جس سے معنی تبدیل ہو جائے۔ (۹) عمل کثیر یعنی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا۔ (۱۰) قصداً یا بھول کر کچھ کھانا پینا۔ (۱۱) قبلہ سے سینہ کا پھر جانا۔ (۱۲) نماز میں ایسی آواز سے ہنسانے کہ از کم خود سن لے۔ (۱۳) امام سے آگے بڑھ جانا۔

نماز مسنون مولانا صوفی عبدالحمید سواتی..... آسان نماز مولانا عاشق الہی بلند شہری

ایامِ رمضان کے لئے

خاص دعائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلا عشرہ رحمت

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِیْمِ

اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے

دوسرا عشرہ مغفرت

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ،

میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا/مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف توبہ کرتا کرتی ہوں

تیسرا عشرہ نجات

اللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ رَّحِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا ،

اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے پس ہمیں معاف فرما د

اس کے ساتھ کثرت سے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَاذِبِينَ — یہ افضل الذکر ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ — یہ افضل الدعاء ہے